



برامپٹن میں وکٹوریا ڈے 2022

برامپٹن، آن (17 مئی 2022) – اس سال، وکٹوریا ڈے بروز پیر، 23 مئی کو آ رہا ہے۔

تمام ضروری اور فوری نوعیت کی خدمات، بشمول فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز، ٹریفک سروسز، بائی لاء انفورسمنٹ، روڈ آپریشنز، سیکورٹی سروسز، ہماری کمیونٹی کو معاونت فراہم کرنے کے لیے معمول کے مطابق اپنا کام جاری رکھیں گی۔

کسی بھی قسم کی انکوائری کے لیے رہائشی 311 یا 905.874.2000 (برامپٹن کے باہر سے) پر کال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ برامپٹن 311 ایپ (ایپ اسٹور یا گوگل پلے پر دستیاب ہے) استعمال کر سکتے ہیں، www.311brampton.ca وزٹ کر سکتے ہیں یا 311@brampton.ca پر ایک ای میل بھیج سکتے ہیں۔ ہم سٹی آف برامپٹن یا ریجن آف پیل کے ہر قسم کے معاملات کے لیے 24/7 دستیاب ہیں۔

فائر ورکس کی سیفٹی

وکٹوریہ ڈے سال کے ان چار مواقع میں سے ایک ہے، جن کے دوران برامپٹن میں ذاتی املاک پر پرمٹ کے بغیر چھوٹی حد والی آتش بازی کی اجازت ہے۔ ضمنی قانون کے تحت، آتش بازیوں کی کینیڈا ڈے، ڈیوالی اور نیو ایئرز ایوو پر بھی اجازت ہے۔

چھوٹی حد والی آتش بازیاں وہ ہوتی ہیں، جنہیں لگایا جائے، تو وہ تین میٹر (10 فٹ) سے کم دور جاتی ہیں (مثلاً فاؤنٹینز، ویلرز، گراؤنڈ سپنرز، سپارکلرز)۔ یہ تقریباً برامپٹن ٹرانزٹ بس یا باسکٹ بال کی رنگ کی اونچائی تک جاتی ہیں۔

دیگر تمام راکٹ کی قسم کی آتش بازیاں برامپٹن میں ممنوع ہیں۔ سٹی رہائشیوں کو یاد دہانی کراتا ہے کہ سڑکوں، سائیڈ واکس، سٹی پارکس کے اندر یا میونسپل یا اسکول کی املاک پر آتش بازیاں استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

نجی املاک پر چھوٹی حد والی آتش بازیوں کے استعمال میں، آپ کو ان حفاظتی تدابیر پر لازمی عمل کرنا چاہیے:

- پانی کا ایک برتن یا بوز لائین دستیاب ہونی چاہیے، جو آتش بازیوں کو بجھانے کے لیے پانی سے بھرا ہو۔
- کبھی بھی اپنے ہاتھ میں سپارکلر کے علاوہ کوئی دیگر آتش بازی نہ جلائیں یا پکڑیں نہیں۔
- آتش بازی کو کبھی بھی دوسروں پر نہ پھینکیں یا رخ نہ موڑیں۔
- سپارکلرز کو استعمال کرنے کے بعد، پھینکنے سے پہلے پوری طرح ٹھنڈے ہونے کے لیے پانی کے کسی برتن میں ڈال دیں۔
- آتش بازیوں کو پھینکنے سے پہلے انہیں پوری طرح ٹھنڈا ہونے دیں۔

ہر سال، آتش بازیوں کے فروخت کنندگان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ آتش بازیاں فروخت کرنے کا لائسنس حاصل کرنے سے پہلے سٹی کی جانب سے تربیت حاصل کریں۔ سٹی نے فروخت کنندگان کو بھی آن لائن تربیت کی پیشکش کی تھی۔ وکٹوریہ ڈے کے لیے کسی قسم کے فائر ورکس لائسنس جاری نہیں کیے گئے۔ اگر رہائشی اسٹورز یا برامپٹن میں دیگر کسی جگہ پر آتش بازیاں فروخت ہوتے دیکھیں، تو ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اس کی اطلاع 311 پر یا (اگر برامپٹن سے باہر ہوں، تو) 905.874.2000 پر دیں۔

آگ سے تحفظ اور اس بارے میں ضمنی قوانین کے حوالے سے مزید معلومات کے لیے www.brampton.ca/fireworks ملاحظہ کریں۔

برامپٹن ٹرانزٹ

برامپٹن ٹرانزٹ، وکٹوریہ ڈے پر اتوار/چھٹی کے شیڈول کے مطابق کام کرے گی۔ ٹرمینلز پر کسٹمر سروس کاؤنٹرز بند ہیں۔ کنٹیکٹ سنٹر صبح 7 تا شام 9 بجے تک معاونت کے لیے دستیاب رہے گا۔



برامپٹن ٹرانزٹ کی تمام بسوں اور برامپٹن ٹرانزٹ ٹرمینلز میں [صوبائی ضوابط](#) کے مطابق ماسک پہننے کی شرط لاگو رہے گی۔ بسوں میں صفائی اور جراثیم کشی کا عمل جاری ہے اور سہولیات اور ٹرمینلز جن کی سطحیں سخت ہیں، ان کو روزانہ صاف اور جراثیم سے پاک کیا جاتا ہے۔

سروس اپ ڈیٹس کے لیے www.bramptontransit.com ملاحظہ کریں یا ہمیں ٹوئٹر پر بذریعہ [@bramptontransit](https://twitter.com/bramptontransit) فالو کریں۔ کسی قسم کے سوالات برامپٹن ٹرانزٹ کے کنٹیکٹ سنٹر سے 905.874.2999 پر پوچھے جا سکتے ہیں۔

برامپٹن پارکس

برامپٹن کے تمام تفریحی ٹریلز، کھیلوں کے میدان اور پارکس بشمول آف لیش ڈاگ پارکس وکٹوریہ ڈے کے موقع پر کھلے رہیں گے۔ جسمانی سرگرمی ہم سب کی صحت اور تندرستی کے لیے اہم ہوتی ہے! ہمارے پارکس اور تفریحی ٹریلز کے بارے میں جاننے کے لیے، براہ کرم www.brampton.ca/parks ملاحظہ کریں۔

برامپٹن ریکرینیشن

برامپٹن کے تفریحی مراکز وکٹوریہ ڈے کے موقع پر کام کے تبدیل شدہ اوقات کے مطابق کھلے رہیں گے۔ چھٹی کے اوقات [یہاں](#) دیکھے جا سکتے ہیں۔ شہر بھر میں سپلش پیڈ موسم کی صورت حال کے مطابق بروز ہفتہ، مورخہ 21 مئی کو موسم کے لیے دوبارہ کھلنے والے ہیں۔ سپلش پیڈ کے مقامات، اوقات کار اور آپریشنل اسٹیٹس کے حوالے سے اپ ڈیٹس [یہاں](#) دیکھیں۔

تفریحی مراکز، دستیاب پروگراموں، رکنیت اور مزید بہت کچھ کے بارے میں معلومات کے لیے www.brampton.ca/recreation پر جائیں۔

برامپٹن لائبریری

وکٹوریہ ڈے کے موقع پر برامپٹن لائبریری کی شاخیں بروز اتوار، 22 مئی اور بروز پیر، 23 مئی کو بند رہیں گی۔

www.bramptonlibrary.ca پر ای بکس اور آڈیو بکس لینے، ٹیلی ویژن اور فلمیں چلانے، تعلیمی، تخلیقی اور پیشہ ورانہ ڈیجیٹل لرننگ پلیٹ فارمز کی وسیع رینج تک رسائی حاصل کرنے اور مزید بہت کچھ کے لیے ہمارے ساتھ آن لائن طور پر شامل ہوں۔ ہمارے [تقریبات](#) کے [کینڈر](#) کے ذریعے تمام عمروں اور دلچسپیوں کے حامل افراد کے لیے ورچوئل، برانچ کے اندر اور ڈراپ ان پروگراموں کے لیے رجسٹر ہوں اور ہمارے ای میل اپ ڈیٹس کو سبسکرائب کریں۔ ہمیں فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور لنکڈ ان پر فالو کریں اور iOS اور 'گوگل پلے' پر برامپٹن لائبریری کی موبائل ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا یقینی بنائیں۔ ہماری ایپ کے بارے میں مزید تفصیلات کے لیے [یہاں کلک کریں](#)۔ اور ہمارے عملے کے ساتھ لائیو چیٹ کرنے کے لیے یا کوئی سوال پوچھنے کے لیے، ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں۔

برامپٹن اینیمل سروسز

برامپٹن اینیمل شیلٹر وکٹوریہ ڈے کے موقع پر بند رہے گا۔ اینیمل کنٹرول پیر سے جمعہ صبح 7 سے رات 10 بجے تک اور ہفتہ، اتوار اور چھٹیوں کے دنوں کے دوران دن صبح 8 سے شام 6:30 بجے تک سڑک پر موجود ہوتا ہے۔ اس اوقات کے علاوہ، اینیمل کنٹرول صرف ہنگامی حالات کا ردعمل دے گا۔

وکٹوریہ ڈے ویک اینڈ کے حوالے سے پبلک ہیلتھ کی جانب سے یاددہانیاں

چونکہ کووڈ-19 ہماری کمیونٹی میں گردش کرتا رہتا ہے، لہذا یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ صحت عامہ کے اقدامات پر عمل درآمد کرنا ہی وائرس کے خلاف ہمارا بہترین دفاع ہیں۔ کووڈ-19 کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کوئی بھی چیز اپنے طور پر 100 فیصد مؤثر نہیں ہے لیکن صحت عامہ کے اقدامات پر عمل درآمد کو یقینی بنانا ہی ہمیں بہترین تحفظ فراہم کر سکتا ہے۔ تحفظ کے اقدامات میں درج ذیل شامل ہیں:



- ویکسین لگوانا۔
- بیمار ہونے پر گھر میں رہنا۔
- اپنے ہاتھوں کو کثرت سے دھونا۔
- کھانسی اور چھینکوں کو ڈھانپ کر سانس کے مناسب آداب پر عمل کرنا۔
- ضرورت پڑنے پر اعلیٰ معیار کا ماسک استعمال کرنا۔

پیل میں اپنی کووڈ-19 ویکسین کیسے اور کہاں پر بک کرائی جا سکتی ہے، کے بارے میں مزید معلومات کے لیے peelregion.ca/coronavirus/vaccine/ ملاحظہ کریں۔ [اونٹاریو کو محفوظ طریقے سے دوبارہ کھولنے](#) کے منصوبے کے تحت صوبائی رہنماء ہدایات پر عمل کرتے ہوئے ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔

30--

میڈیا کنٹیکٹ

سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا

multiculturalmedia@brampton.ca